

# مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY, HYDERABAD

(Accredited "A+" Grade by NAAC)

## Centre for Distance & Online Education

Assignment –II (Unit 1-12)

Programme: B.Com. 2<sup>nd</sup> Semester

Paper: Financial Accounting – II

Max Marks:15

Last Date: See Notice

### حصہ اول

نوٹ: کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔ (4 x 2 = 8)

- 1۔ کلیم نے سلیم سے 9,000 روپے کا مال 5 جنوری 2021 کو خرید 10 جنوری کو اس نے سلیم کے نام بل تحریر کی۔ اس کی مدت دو ماہ تھی۔ واجب الادا تاریخ پر بل مسترد ہو گئی۔ دونوں فریقین کی کتابوں میں جرنل اندراجات کیجیے، جبکہ نوٹنگ کے اخراجات 100 روپے ہونگے۔
- 2۔ حیدر نے علیم پر ایک بل 20,000 روپے تین ماہ کے لیے یکم جنوری 2021 کو تحریر کی۔ اس بل پر علیم نے اپنی منظوری دے دی۔ تین دن بعد حیدر نے اس بل کو اپنے لین دار حلیم کے نام منتقل کر دی۔ واجب الادا تاریخ پر بل پر رقم حاصل ہوئی۔ حیدر، علیم اور حلیم کی کتابوں میں جرنل اندراجات کیجیے۔

- 3۔ حیدر آباد کے مسٹر ذاکر نے فی کنٹنل 5000 روپے کے حساب سے 50 کنٹنل آٹا کو بنگلور کے مسٹر واحد کو ترسیل مال کرتا ہے۔ مال کی روانگی پر فی کنٹنل 100 روپے کے حساب سے باربرداری کے اخراجات کو ذاکر ادا کرتا ہے۔ دوران سفر 100 کلو آٹے کی مقدار ضائع ہوتا ہے اور واحد کو 4900 کلو آٹا حاصل ہوتا ہے۔ واحد نے قلی کے 1000 روپے ادا کرتا ہے۔ اس نے فی کنٹنل 8000 روپے کے حساب سے 40 کنٹنل مال فروخت کرتا ہے۔ تب اختتامی ذخیرہ محسوب کیجیے۔
- 4۔ بل آف ایکسچینج پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔

### حصہ دوم

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔ (7 x 1 = 7)

- 5۔ کلکتہ کے رہنے والے مسٹر حامد نے مدراس کے رہنے والے مسٹر رحیم کو 500 روپے بیکپ قیمت کے ساتھ فی سیکل 3500 کے حساب سے 100 سیکلیں روانہ کرتا ہے سیکلوں کی روانگی پر 5000 روپے باربرداری اور پیکنگ کے 5000 روپے ادا کرتا ہے مسٹر رحیم نے فی

سیکل 4,500 روپے کے حساب سے تمام سیکل فروخت کرتا ہے جس سے اس کو 5% عام کمیشن دیا جاتا ہے رجم نے 3000 روپے مزدور اور 5000 روپے کرایہ اور 2000 روپے تشہیر کے اخراجات ادا کرتا ہے رجم پیشگی کے طور پر 2,00,000 روپے ادا کرتا ہے حامد کے کتابوں میں عام اندراجات کرتے ہوئے ضروری کھاتے کیے گئے۔

6۔ سلیم اور نعیم دونوں کاروباری دوست ہیں۔ یہ دونوں عارضی طور پر فنڈز کی قلت سے دوچار ہیں۔ یکم فروری 2021 پر انہوں نے ایک دوسرے پر دو ماہ کے لیے بل 18,000 روپے باہمی مدد کے لیے تحریر کر کے منظوری دے دی۔ دونوں نے ان بلز کو 6% سالانہ پر بنک سے ڈسکاؤنٹ کروایا۔ واجب الادا تاریخ پر ہر ایک نے رقم ادا کی۔ دونوں فریقین کی کتابوں میں جرنل اندراجات کیجئے۔

7۔ تفویض مال اور فروخت کے درمیان امتیاز کیجئے۔

### Assignment –III (Unit 13-24)

Max Marks:15

Last Date: See Notice

#### حصہ اول

نوٹ۔ کوئی دو سوالوں کے جواب دیں۔  
(4 x 2 = 8)

1۔ یکم جنوری 2018 کو 80,000 روپے کی مشنری خریدی گئی۔ اس کی تنصیب پر 20,000 روپے عائد ہوتے ہیں۔ یکم جولائی 2019 کو 2,00,000 روپے کی دوسری مشنری خریدی گئی۔ 31 دسمبر 2019 کو پہلی مشین ناکارہ ہونے پر 50,000 روپے میں فروخت کی گئی اور یکم جنوری 2020 کو 3,00,000 روپے کی تیسری مشنری خریدی گئی۔ تینوں مشینوں پر گھٹتے ہوئے بقایا کے طریقہ پر 10% فرسودگی عائد کرتے ہوئے چار سال کا مشین کھاتہ تیار کیجئے۔ کیلنڈر سال کے تحت کھاتہ بند کیجئے۔

2۔ ذیل کے تفصیلات کی 31 دسمبر 2019 سال ختم پر وصولی و ادائیگی کھاتہ تیار کیجئے۔  
یکم دسمبر ہاتھ میں نقدی کا میزان 2,20,000 روپے، عمارت کی تعمیر کے لیے فنڈ کی وصول 6,70,000 روپے،  
داخلہ فیس 1,60,000 روپے، اجرت کی ادائیگی 90,000 روپے، تنخواہیں 70,000 روپے، حاصل سود 10,000 روپے، صادر  
60,000

روپے، دفتری اخراجات 20,000 روپے، سفری مصارف 12,000 روپے، پرانے اخبار کی فروخت سے حاصل رقم 5,000 روپے،  
عمارت کی تعمیر پر اخراجات 2,30,000 روپے

3۔ یکم جنوری 2020 کو 5,00,000 روپے کی مشین خریدی گئی۔ یکساں قسطوں کے طریقہ کے تحت سالانہ 10% فرسودگی عاید کرتے ہوئے 5 سال کا مشین کھاتہ تیار کیجئے۔

4۔ اکھرے اور دوہرے اندراج کے طریقے کے درمیان امتیاز کیجئے۔

## حصہ دوم

نوٹ: کوئی ایک سوال کا جواب دیجئے۔ (7 x 1 = 7)

5۔ ذیل میں 31 دسمبر 2020 سال ختم پر شاد کلب کا وصول و ادائیگی کھاتہ دیا گیا۔ سال ختم پر آمدنی و اخراجات کھاتہ اور بیلنس شیٹ تیار کیجیے۔

### Receipt and Payment Account as on 31-12-2020

| Receipt                    | Amount   | Payment                         | Amount   |
|----------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| To Balance b/d             | 70,000   | By Tournemtn Expenses           | 40,000   |
| To Subscription            | 80,000   | By General Expenses             | 3,800    |
| To Sale of Old Newspapers  | 500      | By Printing and Stationary Exp. | 2,000    |
| To Rent Ground             | 3000     | By Purchase of Sport Equipment  | 20,000   |
| To Donation for Tournament | 1,00,000 | (1-1-2020)                      |          |
| To Entrance Fee            | 50,000   | By Honorarium                   | 1,200    |
|                            |          | By Salaries                     | 45,000   |
|                            |          | by Balance c/d                  | 1,91,500 |
|                            | 3,03,500 |                                 | 3,03,500 |

سال کے آغاز یعنی یکم جنوری 2020 کو حسب ذیل اثاثے ہیں۔

1. کھیل کا میدان (Play Ground) = 1,00,000 روپے۔
2. کھیل کا سامان 50,000 Sport Material روپے۔
3. وصول طلب چندے (Outstanding subscription) 10,000 روپے۔
4. سال کے آخر یعنی 31 دسمبر 2020 میں وصول طلب چندے 15,000 روپے ہیں۔
5. دوران سال کھیل کے سامان پر 50% فرسودگی عائد کی جائے۔
6. داخلہ فیس کا 50% آمدنی تصور کریں۔
7. دوران سال کے ادا طلب تنخواہیں 5000 روپے ہیں۔

6۔ یکم جنوری 2015 کو 50,000 روپیے کی مشین خریدی گئی۔ یکم جولائی 2016 میں 1,00,000 روپیے کی دوسری مشین خریدی گئی۔ 30 جون 2017 کو پہلی مشین ناکارہ ہونے پر 20,000 روپیے میں فروخت کر کے دوسرے دن یعنی یکم جولائی 2017 کو تیسری مشین 1,00,000 روپیے میں خریدی گئی۔ یکساں قسطوں کے طریقہ پر سالانہ 10% فرسودگی عائد کرتے ہوئے چار سال کا مشین کھاتہ کھولیے۔

7۔ فرسودگی کی تعریف کرتے ہوئے اس کے اہم اسباب کو بیان کیجئے۔